



قائد اعظم ٹرافی فرسٹ ایون ٹورنامنٹ کاساتواں راؤنڈ مکمل

- نعمان علی کی عمدہ باؤلنگ نے ناردرن کو پہلی کامیابی دلادی
- بلوچستان اور سنٹرل پنجاب کے درمیان میچ ڈرا ہو گیا
- سدرن پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان میچ بھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہوسکا

لاہور، 14 نومبر 2019ء:

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ناردرن نے کپتان نعمان علی کی شاندار باؤلنگ کی بدولت سندھ کو 145 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے کر ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ 345 رنز کے تعاقب میں سندھ کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 199 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ نویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے میدان میں آنے والے سپیل خان کی نصف سنچری بھی سندھ کو مشکلات کے بھنور سے نہ نکال سکی۔ انہوں نے 54 رنز کی اننگز کھیلی پہلی اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کرنے والے ناردرن کے اسپنر نعمان علی نے دوسری اننگز میں بھی 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ اس سے قبل 82 رنز کی سبقت سے دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی ناردرن کی ٹیم نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 262 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کردی تھی۔ پہلی اننگز میں ناردرن کے 408 رنز کے جواب میں سندھ کی ٹیم 326 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔

ادھر قذافی اسٹیڈیم لاہور میں بلوچستان اور سنٹرل پنجاب کے درمیان میچ بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ بارش اور کم روشنی کے باعث میچ کے آخری روز صرف 26.3 اوورز کا کھیل ہی ممکن ہوسکا۔ جمعرات کے روز 6 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز سے کھیل کا دوبارہ آغاز کرنے والی سنٹرل پنجاب کی ٹیم نے 93.1 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان 324 رنز بنائے تھے کہ کم روشنی کے باعث میچ ختم کر دیا گیا۔ سنٹرل پنجاب کی جانب سے مڈل آرڈر بیٹسمین عثمان صلاح الدین ٹاپ اسکورر رہے۔ وہ میچ کے آخری روز اپنی سنچری مکمل نہ کرسکے اور 94 رنز بنا کر عمران فرحت کی گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہو گئے۔ اس سے قبل بلوچستان کی ٹیم پہلی اننگز میں

450 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی تھی۔

دوسری جانب ایبٹ آباد اسٹیڈیم میں سدرن پنجاب اور خیبرپختونخوا کے درمیان میچ بھی ڈرا ہوگیا۔ اوپنر سمیع اسلم کی ایونٹ میں چوتھی سنچری کی بدولت سدرن پنجاب نے 5وکٹوں کے نقصان پر 337 رنز بنائے تھے کہ میچ کے لیے مقررہ وقت ختم ہوگیا۔ سمیع اسلم نے 150 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ سدرن پنجاب کے دوسرے نمایاں بلے باز ذیشان اشرف تھے۔ انہوں نے 94 رنز بنائے۔ 79 رنز کے خسارے سے دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی سدرن پنجاب کی ٹیم دن کے اختتام تک خیبرپختونخوا پر صرف 258 رنز کی سبقت ہی حاصل کرسکی۔ خیبرپختونخوا کی جانب سے عرفان اللہ شاہ نے دوسری اننگز میں 3کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اس سے قبل سدرن پنجاب کے 338 رنز کے جواب میں خیبرپختونخوا کی ٹیم نے 5وکٹوں کے نقصان پر 417 رنز بناکر اپنی پہلی اننگز ڈکلیئر کردی۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk